

حصہ اول

سوال 1. بریکٹس سے درست جواب منتخب کریں۔

- (1) آدم سمیتھ ، رابنر ، جے ایس میل
(2) مارشل ، ریکارڈ ، جیکو
(3) $5x+x=0$ ، $x^2+2x+5=0$
(4) عمودی ، افقی ، مثبت
(5) معینہ ، کم ، زیادہ
(6) نظریہ آبادی ، نظریہ اجرت ، نظریہ لگان
(7) تکثیر مصارف ، تقلیل مصارف ، یکسانی مصارف
(8) منافع ، اجرت ، سرمایہ
(9) سرمایہ کاری ، بچت ، بیرونی قرضہ
(10) ساکن رہنا ، بڑھنا ، گھٹنا

1. کھانسی کا سبب فکر کا بانی کون تھا۔
2. پرنسپل آف اکنامکس کس نے لکھی؟
3. ان میں سادہ مساوات کونسی ہے؟
4. ضیاع پذیر اشیاء کے خط رسد کا جھکاؤ ہوتا ہے۔
5. جو مہرہ منڈی میں اشیاء کی رسد ہوتی ہے۔
6. مالٹس کی وجہ شہرت ہے۔
7. قانون تقلیل حاصل کا دوسرا نام ہے۔
8. مالٹس کے معادلے کا نام ہے۔
9. سرمایہ اندوڑی کا دارو مدار اس پر ہے۔
10. منائی میں توازن سے مراد ہے قیمت کا

حصہ دوم (5x10=50)

سوال 2. مختصر جواب تحریر کریں۔

- (1) اشیاء مصارفین اور اشیاء سرمایہ میں کیا فرق ہے؟
(2) کیا معاشیات علم ہے یا فن؟ وضاحت کریں۔
(3) قانون مساوی افادہ ہائے تختہ کی تعریف کریں۔
(4) آمدنیاتی ٹیک سے کیا مراد ہے؟
(5) معینہ مال سے منڈی سے کیا مراد ہے؟

1. معاشیات کی خصوصیات بیان کریں۔
2. فوکارڈرز کی معاشیات کی خامیاں بیان کریں۔
3. افادہ تختہ کے نئے نئے افادہ ہائے تختہ کی تعریف کریں۔
4. غیر مسلسل مختیر سے کیا مراد ہے؟
5. قانون رسد کی تعریف کریں۔

حصہ سوم (10x3=30)

سوال 3. کوئی سے تین سوال وضاحت کے ساتھ حل کریں۔

- (1) جزویاتی معاشیات کی تعریف کریں۔
(2) زمین کی خصوصیات بیان کریں۔

- (1) معاشیات کا فلسفہ مضمون کیا ہے؟
(2) قانون تقلیل افادہ تختہ کی حدود بیان کریں۔

NOTE:- ATTEMPT ANY FIVE QUESTIONS. Q.NO.1 & Q.NO.2 ARE COMPULSORY.**(SECTION - A) 2x10=20**

Q.1. Select the correct answer from bracket.

1. Who was the founder of classical thought of Economics (Adam Smith - Robins - JS Mill) 2. Who wrote the Principle of Economics? (Marshall - Robbins Adam Smith) 3. Which one is Linear equation? ($x^2+2x+1=0$), ($5x+3x=0$) 4. Caiffen goods suply curve toward (Vertical - Horizontal - Positive) 5. In the Daily Market the supply of goods are (Maximum - Fix - Low) 6. Malthus is famous for (theory of population - theory of wages - theory of Rent) 7. Other name for law of Diminution return is (increasing cost - decreasing cost - equal cost) 8. Organizer Gains is called (Profit - wages - capital) 9. Capital formation depends on (investment - saving - loan) 10. Market equilibrium means that price (constant - increasing - decreasing)

(SECTION - B) 5x10=50

Q.2. Write a short note on the following

- (i) Define the characteristics of Economic wants. (ii) Differentiate between investment goods and capital goods. (iii) Illustrate the definition of Economics of Professor Robbins Demertis. (iv) Is Economics Art or Science? (v) Explain the decreasing reasons of Mariginal Utility. (vi) Explain the law of equi marginal Utility. (vii) What do you mean by discontinous variable? (viii) What is the definition of income Elasticity? (ix) Define law of supply? (x) What do you mean by the Market of Perfect competition?

(SECTION - C) 3x10=30

Q.3 Write in detail on any three of the following.

- (i) What is the Subject matter of Economics?
(ii) What is the Definition of Micro Economics?
(iii) What are teh limitation of law of deminution Utility?
(iv) What are the characteristics of Land?